

Time: 1 Hour	Paper Math 7 (T-1)	Total Marks: 25
4th Month, 2nd Week, 6th Day	Revision Test (2nd Week)	

Q.1. Choose the correct options. (1 x 3 = 3) درست جواب کا انتخاب کریں۔

(i) If the radius of circle is 2cm then its area will be:

اگر دائرے کا رداس 2 سینٹی میٹر ہو اس کا رقبہ ہوگا:

(a)	12.57cm ²	(b)	10.52cm ²	(c)	14.58cm ²	(d)	13.50cm ²
-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------

(ii) If d = 11cm, then A is equal to: اگر قطر = 11 سینٹی میٹر ہو تو رقبہ برابر ہے:

(a)	90cm ²	(b)	95.03cm ²	(c)	95cm ²	(d)	96.07cm ²
-----	-------------------	-----	----------------------	-----	-------------------	-----	----------------------

(iii) If r = 3.1m then C is will be equal to: اگر رداس 3.1 میٹر ہو تو محیط برابر ہوگا:

(a)	19.18m	(b)	19.30m	(c)	19.40m	(d)	19.48m
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.2. If a horse covers 40km in every 30 minutes, then find his speed in km/h.

(1x2=2)

اگر ایک گھوڑا 40 کلومیٹر کا فاصلہ 30 منٹ میں طے کرتا ہو تو اس کی رفتار کلومیٹر فی گھنٹہ میں معلوم کریں۔

Q.3. Ahmad reached expo center at 9:00 a.m. to attend book fair. He left


book fair at 3:40 p.m. How much time did he spend at book fair? (1x5=5)

پہ کتاب میلہ سے روانہ ہوا۔ اس نے 3:40 بجے ایکسپو سنٹر پہنچا۔ وہ شام 9:00 بجے ایک کتاب میلہ میں شرکت کے لیے صبح

کتاب میلہ میں کتنا وقت گزارا؟

Q.4. Find the area of walking track around the lawn. (1x5=5)

صحیح کے ارد گرد پیدل چلنے کے راستے کا رقبہ معلوم کریں۔



Q.5. Complete the table.

(1x5=5)

جدول مکمل کریں۔

Sr. No	mm ²	cm ²	m ²
(i)	1400		
(ii)		100	
(iii)			5

Q.6. Find the circumference and area of the following circles having:

(2.5x2=5)

درج ذیل دائروں کا محیط اور رقبہ معلوم کریں جن کا:

(i) d = 8cm

(i) قطر = 8 سینٹی میٹر

(ii) r = 3cm

(ii) قطر = 3 سینٹی میٹر